

نماز کے احکامات (۲)

فرض نماز کی کفیت کا بیان

﴿يَقِيْنًا فَلَا حَيْلَةَ لِأَيْمَانِ وَالوْلَى نَذْ جَوَابِنِي نَمَازِ مِنْ خَشْوَعٍ اخْتِيَارَكَرَتْهُنِ -﴾ (المونون: ۲۰، ۲۱)

فواہد: فلاج سے مراد کامیابی ہے۔ شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور اسکے بدے میں آخرت میں اللہ کی رحمت کا مستحق قرار پائے۔ اسکے ساتھ اگر دنیا کی سعادت و کامرانی بھی مل جائے تو سبحان اللہ ورنہ اصل کامیابی تو آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ خشوع سے مراد قلب و بدن کی یکسوئی اور انہماک ہے۔ قلبی یکسوئی یہ ہے کہ نماز کی حالت میں قصد اخیالات و سوسوں کے بھجوں سے دل کو محفوظ رکھے اور اللہ کی عظمت کا نقش دل پر بٹھانے کی کوشش کرے۔ اعضاء و بدن کی یکسوئی یہ ہے کہ ادھر ادھر نہ دیکھیں، کھلیں کو دنہ کرے، بالوں اور کپڑوں کو سنوارنے میں نہ لگا رہے، بلکہ خوف اور عاجزی کی انسی کفیت طاری ہو جو عام طور پر بادشاہ یا کسی بڑے شخص کے سامنے ہوتی ہے۔

﴿حَضْرَتُ أَبُو بَرِّيْرَةَ سَمِعَ رَوَيْتَ بِهِ كَهْ إِيْكَ آدَمِيْ مَسْجِدَ مِنْ دَاخِلِهِ أَوْرَاسِ نَذْ نَمَازِ بُرْهَيِ -﴾ پھر وہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا۔ آپ نے اسکے سلام کا جواب دیا اور فرمایا۔ واپس جاؤ اور نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص واپس کیا اور پھر نماز پڑھ کر آیا۔ آپ نے پھر اسے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اس طرح وہ شخص تین مرتبہ گیا اور تینوں مرتبہ آپ نے اسے دوبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ آخر میں اس شخص نے کہا "مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آپ مجھے سکھا دیں" فرمایا۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، پھر سورہ فاتحہ پڑھو، پھر رکوع کرو۔ یہاں تک کہ تم اطمینان سے رکوع کرلو۔ پھر سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ تم اطمینان سے سجدہ کرو۔ پھر اٹھو، یہاں کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ۔ پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ تم اطمینان سے سجدہ کرلو۔ پھر پوری نماز میں یونہی کرو۔ (بخاری، مسلم، احمد)

فواہد: یہ حدث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ نماز کے تمام ارکان مکمل سکون اور اطمینان سے ادا کرنے چاہیں خصوصاً رکوع و سجود اور ان کے درمیانی وقفے میں بدن پر اطمینان طاری کرنا نہ لست ضروری ہے۔ کیونکہ جو شخص غلط نماز پڑھ رہا تھا نی اسے ہر موقع پر اطمینان سے ادا گئی ارکان کا حکم دیا۔ اگر نماز اطمینان سے نہ پڑھی جائے تو وہ باطل ہو گی۔

نماز کے فرائض

نماز کے چند فرائض ہیں جن میں سے اگر ایک بھی رہ جائے تو نماز نہیں ہو گی۔

- ۱- نیت کرنا: نیت کا مطلب ہے دل سے ارادہ کرنا۔
- ۲- تکیر تحریمہ (یعنی نماز شروع کرنے وقت) اللہ اکبر کہنا
- ۳- فرض نماز کا کھڑے ہو کر پڑھنا: جو شخص کھڑا ہو سکتا ہو اس کے لیے فرض نماز میں کھڑا ہونا فرض ہے۔ (الفقه علی المذاباب الاربعہ)
- ۴- ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا: نبی ﷺ نے فرمایا، جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں۔ (بخاری، مسلم، احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ)
- ۵- رکوع کرنا: رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے کہ سب سے برا چورو ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے یعنی وہ رکوع و سجود میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتا۔ (احمد- طبرانی)
- ۶- قومہ (رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا): نبی ﷺ جب رکوع سے اٹھتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ پیٹھ کی پڈی اپنی جگہ واپس آجائی۔ (متفق علیہ)
- ۷- دو سجدے اور لذک درمیان بیٹھنا: نبی ﷺ کو حکم دیا گیا کہ سات اعضاء پر سجدہ کریں اور یہ کہ اپنے بالوں اور کپڑے کو زمین پر لگکے سے نہ روکیں۔ سات اعضاء پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹتے، اور دونوں پاؤں ہیں۔ (بخاری و مسلم)
- ۸- دوسری اور آخری رکعت میں بیٹھنا اور شہید (التحیات) پڑھنا: نبی ﷺ نے فرمایا کہ جب تم ہر دوسری رکعت میں بیٹھو تو کھو التحیات۔۔۔۔۔ پھر جو دعائیں پسند ہو وہ اللہ سے مانگو۔ (احمد، نسانی)
- ۹- سلام: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، نماز کی کنجی پاکیزگی ہے، اس کی تحریم اللہ اکبر کہنا ہے اور اس کی تحلیل سلام پھیرنا ہے۔ (احمد، شافعی، ابو داؤد، ابن ماجہ)

۱۰- ترتیب: نماز کا اسی ترتیب سے پڑھنا فرض ہے جس ترتیب سے نبی ﷺ نے اس کی تعلیم دی ہے۔

۱۱- اعتدال و اطمینان: نماز کا اطمینان سے پڑھنا فرض ہے کیونکہ جو شخص غلط نماز پڑھ رہا تھا نبی ﷺ نے اسے ہر موقع پر اطمینان سے ادائیگی اركان کا حکم دیا۔

نماز کی سنتیں

۱- تکیر تحریمه کے وقت دونوں ہاتھوں کا انہانا: نبی ﷺ نے اللہ اکبر کہا اور اپنے ہاتھ انہا کے۔ (مسلم)

۲- دائیں بازو کا بائیں بازو پر رکھنا: اس بارے میں انہارہ صحابہ اور تابعین سے بیس احادیث ثابت ہیں۔

۳- ثناء یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے کی دعا: اس بارے میں نبی ﷺ سے بارہ دعائیں ثابت ہیں جن میں سے کوئی بھی دعا پڑھی جاسکتی ہے۔

۴- تعوذ یعنی اعوذ بالله پڑھنا: ثناء کے بعد تعوذ پڑھنا مستحب ہے۔

۵- سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہنا: ہر نمازی کے لیے خواہ تمہا نماز پڑھ رہا ہو یا باجماعت، سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا مسنون ہے۔ (الفقه علی المذاہب الا ربع)

۶- سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا: فجر اور جمعہ کی دونوں رکعتوں میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی پہلی اور دوسری رکعتوں میں اور ستتوں اور نوافل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کسی سورت یا قرآن کے کسی حصہ کا پڑھنا مسنون ہے۔

۷- نماز میں ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوئے وقت اللہ اکبر کہنا۔ البتہ رکوع سے اٹھتے وقت "سمع الله لمن حمده" کہنا

۸- رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنیوں کو بدن سے دور رکھنا اور گھٹنوں پر ہاتھوں کی انگلیوں کو کھول کر رکھنا۔ رکوع میں "سبحان رب العظیم" کہنا مسنون ہے۔ اس کے علاوہ بھی نبی ﷺ سے رکوع میں پڑھی جائے والی دیگر دعائیں منقول ہیں۔

۹- رکوع سے اٹھتے وقت "سمع الله لمن حمده" اور سیدھے کھڑے ہو کر "ربنا و لک الحمد" کہنا: رکوع میں جھکنے اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے اور رکوع میں کمر سیدھا رکھنے سے فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن سنت یہ کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنیوں کو بدن سے دور رکھنا جائے۔

۱۰- سجدہ میں 'سبحان رب الاعلیٰ' کہنا: اس کے علاوہ بھی نبی ﷺ سے سجدہ میں پڑھی جائے والی دیگر دعائیں منقول ہیں۔ مزید یہ کہ نبی ﷺ نے فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھو اور کہنیوں کو اوپر اٹھاؤ۔ (مسلم)

۱۱- شہید میں شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا

۱۲- شہید کے بعد نبی ﷺ پر درود پڑھنا

نماز کے مُبطلات

مُبطلات سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔

۱- عمل کشی: ہر وہ کام جو نماز کے منافی ہو، اگرگذیادہ ہوتا نماز باطل ہو جاتی ہے۔ البتہ جو چیزیں جنس نماز ہیں (جیسے رکوع یا سجدہ) اور وہ بھول کر زیادہ پڑھ لی جائیں تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ (الفقه علی المذاہب الا ربع)

۲- نماز کے کسی رکن یا شرط کا ترک کر دینا: جیسے وضو نماز کی شرط ہے اور بے وضو نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح اطمینان و سکون نماز کا رکن ہے۔

۳- جان بوجہ کریونا

۴- کھانا پینا

۵- ہنسنا

کتابچہ نمبر ۴ (الف)